

عِصْمَتِ عَاشرَه رضي الله عنها میں حکمتِ خداوندی

卷之三

علامة عبدالستار همدانی



ALAHAZRAT NETWORK

اعلیٰ حضرت نیٹ ورک

www.alahazratnetwork.org

عَصْمَتْ عَايَشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

تصنيف: لطیف. علامہ عبدالستار ہمدانی مصروف برکاتی
www.alahazratnetwork.org

پیش کش:

اعلام حضرت نبیث ورک

E-mail: fikrealahazrat@yahoo.com

برائے:

www.alahazratnetwork.org

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب-----	عصرت عائشہ میں حکمت خداوندی
مصنف-----	مناظر اہل سنت، علامہ عبدالستار ہمدانی "مصروف"
کپوزنگ-----	ارشد علی جیلانی "جان"، جبل پوری
طباعت باہتمام-----	كتب خانہ فاروقیہ، شیا محل، دہلی
طباعت-----	بھارت آفیسٹ پر لیس، دہلی
سن اشاعت-----	باراول، ۱۳۲۲ھ/۲۰۰۳ء
تعداد اشاعت-----	۱۰۰۰ (اکیپ ہزار) www.alahazratnetwork.org
ویب لے آؤٹ-----	ریاض شاہد قادری، ڈیجیٹل لائبریری فکر اعلیٰ حضرت، اوکاڑہ

ناشر

حرکز اہل سنت برکات و نا

امام احمد رضا رودھی، میمن واڈ، پور بندر - گجرات (انڈیا)

- ملنے کے پتے:-

- (۱) مرکز اہل سنت برکات رضا پور بندر گجرات
- (۲) کتب خانہ امجدیہ، ۱۳۲۵ھ/شیا محل جامع مسجد دہلی۔ ۶
- (۳) فاروقیہ بک ڈپو، ۱۳۲۳ھ/شیا محل جامع مسجد، دہلی۔ ۶
- (۴) دارالعلوم غوث اعظم، امام احمد رضا رودھی، پور بندر، (گجرات)


فہرست عنوانات

”عصرت عائشہ میں حکمت خداوندی“

صفحات

عنوانات

- سبب تالیف
- حدیث افک
- اصل واقعہ کیا تھا؟
- حضور اقدس ﷺ نے اشارۃ الزام کی تردید فرمائی
www.alahazratnetwork.org
- حضرت عائشہ کی برأت میں قرآنی آیات کا نزول
- منافقین زمانہ کے اعتراضات
- حضور اقدس ﷺ کو یقین کے درجہ میں اس معاملہ کا علم تھا
- عورت کے حقوق کی پاسداری
- برأت عائشہ میں تاخیر کی حکمت



سبب تالیف

آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے عالی جناب رفیق بھائی پور بندری کا بوئسوانہ (افریقہ) سے فون آیا اور انہوں نے فون پر اتنا گفتگو یہ بتایا کہ آج کل افریقہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کے تعلق سے کچھ زیادہ ہی نازیبا کلمات کہے جا رہے ہیں، آپ کی پاکدامنی پر کچھڑا چھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کی عصمت و عفت پر کلام کیا جاتا ہے۔ جب کہ اپنے ہندوستان میں بھی ایسی باتیں سنی جاتی رہیں اور بروقت اس کے کافی و شافی جوابات بھی علمائے اہل سنت کی جانب سے دے جاتے رہے۔ مگر جب بات سرحد کو عبور کر جائے تو معاملہ کچھ زیادہ ہی غمین ہو جاتا ہے۔

منافقین زمانہ تو ہر لمحہ نبی کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے منسوب شخصیات و اشیاء کی کچھ نہ کچھ تنقیص میں رہتے ہی ہیں۔ انہیں موقع ملنا چاہیئے اور پھر بس زبان کھل جاتی ہے، واقعات و حادثات کی حقیقت و اصلیت جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور نہ لوگوں کو جاننے دیتے ہیں۔ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کے تعلق سے کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اگر کسی وہابی، تبلیغی سے پوچھا جائے تو شاید ہی جواب ملے، کیونکہ ان کو صرف گستاخی کی ہی حد تک معلومات ہیں، اور اسی کی وہ نشر و اشاعت کرتے ہیں۔

اس ضمن میں آیات ربائی و احادیث نبوی و اقوال بزرگان بے شمار ہیں جو اپنے اندر انہائی جامعیت رکھتے ہیں اور ہر ذی عقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔

بہر حال! اس تعلق سے جب مناظر اہل سنت، ماہر رضویات، علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب مدظلہ العالی کو اطلاع ملی تو آپ بڑے تشویش مند اور متفسر تھے، چند ہی لمحوں کے بعد مجھے حقیر سے فرمایا کہ اگر اس موضوع پر مختصر سا ایک کتابچہ لکھ دیا جائے تو کیسا رہے گا تاکہ سادہ لوح عام مسلمان اس کو پڑھ کر اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کر سکیں حضرت کے اس جواب پر میں بہت خوش ہوا اور اسی وقت حضرت نے لکھنا شروع کیا یہاں تک کہ کل ایک چار گھنٹہ میں پورا رسالہ بنام ”عصمت عائشہ میں حکمت خداوندی“ زیور تالیف سے آراستہ ہو گیا، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

آپ اس کا مطالعہ فرمائیں اور امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق جو گمراہ کن غلط فہمیاں گمراہ گروں نے آپ تک پہنچائی ہیں ان سے یکخنث کنارہ کش ہو کر انصاف و دیانت سے ایمان کی بات تکھی۔

رسول پروردگار ذی شان عالی وقار نبی مختار ﷺ کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مسلمانوں کی ماں کے تعلق سے اگر کوئی مسلمان تو در کنار غیر مسلم بھی ایسی باتیں کہہ کر نکل جائے اور ہم میں سے کسی کے سر پر جوتک رنگیں تو یہ یقیناً ہماری ایمان کی کمزوری ہو گی۔ جس معزز خاتون کو نبی مختار نے اپنی شریک حیات بنایا ہوان کے تعلق سے ایک بے ایمان اور بد تمیز گستاخ ہی ایسی باتیں کہہ سکتا، سن سکتا ہے، اہل ایمان اسے کبھی برداشت نہیں کرے گا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور
انبیاء اولیاء اہل بیت اطہار کی محبت میں روز افزون اضافہ فرمائے۔ نیز حضرت موصوف کی
عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار
فرمائے۔ آمین

ارشد علی جیلانی ”جان“، جبل پوری
خادم: مرکز اہل سنت برکات رضا

پور بندر (گجرات)

www.alahazratnetwork.org

۲۱ ربیعہ ۱۴۲۳ھ

لے انومبر ۲۰۰۳ء

بسم اللہ الرحمن الرحيم

دور حاضر کے وہابیہ، تبلیغیہ اور دیگر فرق باطلہ کے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ کے تعلق سے سرکار دو عالم ﷺ کے علم غیب پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور عوام الناس کو ورغلانے کیلئے یہ کہتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم ﷺ کو علم غیب تھا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملہ میں اتنا سکوت کیوں فرمایا اور وحی کے منتظر کیوں تھے؟ اس طرح کی لائیعنی باتوں سے عوام الناس کو حق سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیچارے، کم علم لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور نتیجہ علم غیب مصطفیٰ کے انکار کرنے سے ایمان کی لازوال دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت کے دردناک عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مباحثہ کا آپ بغور مطالعہ فرمائیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ منافقین زمانہ اس واقعہ کے ضمن میں کیسی دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔

آقائے کائنات ﷺ کا علم غیب قرآن کی متعدد آیات اور احادیث کے بے شمار متون سے ثابت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔

حضرت اقدس ﷺ اپنی ازواج مطہرات میں جو عدل و انصاف اور جو اعتدال فرماتے اس کی نظیر دنیا کے کسی شخص میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ سفر میں جاتے وقت اگر کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ فرماتے تو عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت قرعد اندازی فرماتے اور جس زوجہ مطہرہ کے نام قرعد نکلتا اسے سفر میں ہم رکابی کا شرف عطا فرماتے۔

۵۵ میں غزوہ بنی المصطلق میں حضور اقدس ﷺ نے تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اور ازواج مطہرات کے درمیان قرعدا۔ اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکلا۔ غزوہ بنی المصطلق ۵۵ سے پہلے آیت حجابت نازل ہو چکی تھی۔ یعنی عورتوں کیلئے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ قرآن مجید پارہ ۲۲ سورہ احزاب میں آیت حجابت نازل ہو چکی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ سے قبل کا ہے۔ غزوہ بنی المصطلق میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس ﷺ کے ساتھ تشریف لے گئیں۔ ان کی سواری کا بندوبست ایک اونٹ پر محمل یعنی کجاوے میں کیا گیا۔ اس کجاوے کو پردہ کیلئے اچھی طرح مجھوں کیا گیا جاتا کہ کسی غیر محرم کی نظرام المؤمنین پر نہ پڑے۔ آپ کجاوے میں پردے کے کامل انتظام کے ساتھ بیٹھ جاتیں۔ اور پھر اس کجاوے کو اونٹ کی پیٹھ پر رسیوں سے باندھ دیا جاتا۔ پڑا اور منزل پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کجاوے کے اندر بیٹھی رہتی تھیں۔ اور کجاوے کو اونٹ کی پیٹھ سے اتار لیا جاتا تھا۔ اب پورا واقعہ جس کو ”حدیث افک“ کے نام سے شہرت ملی ہے۔ اس کو خود سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس زبان سے سنئے۔

اصل واقعہ کیا تھا؟

شیخین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے

روایت کی، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے۔ اور مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر پڑاؤ کا حکم فرمایا میں اٹھی اور قضاۓ حاجت کیلئے لشکر یوں کے پڑاؤ اور ٹھہراؤ سے ذرا فاصلے پر باہر چلی گئی، فراغت پا کر اپنی قیام گاہ پر لوٹی تو اتفاق سے میرا ہاتھ سینے پر گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ہار گلے میں نہیں ہے۔ وہ ہار جز عغفار کا بنا ہوا تھا۔ میں اسی جگہ پر واپس گئی تو ہار کو تلاش کرنے لگی۔ اور اس تلاش میں دیریگ گئی۔ ادھر لشکر روانہ ہو رہا تھا جو لوگ میرا کجاوا (محمول) اونٹ پر رکھتے اور باندھتے تھے وہ آئے اور یہ سمجھا کہ میں اس کجاوے (محمول) میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ محمول کو اٹھا کر اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا۔ میں ایک کم وزن اور سبک جسم عورت تھی۔ لہذا ان کو یہ پہنچنے پالا کر محمول خالی رہتا یا بھرا ہوا ہے۔ میں جب ہار تلاش کر کے اقامت گاہ پر لوٹی تو لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ جہاں لشکر کا پڑاؤ تھا، وہاں پر اب کوئی بھی موجود نہ تھا جس جگہ پر میرا ڈیریہ تھا میں اس جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ میرا خیال یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کونہ پائیں گے تو کسی کو بھیج کر مجھ کو بلوایں گے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بوجھل ہوئیں، نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے ”معقب کاروال“ کی خدمت پر مامور تھے (معقب کاروال یعنی پہلے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ یا لشکر کو چ کرتا تھا تو ایک شخص کاروال یا لشکر کے پیچے رکھا جاتا تھا تا کہ کاروال سے کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ شخص اٹھا لے اور پھر منزل پر پہنچ کر امیر کاروال کے پر درکردے، اور امیر کاروال تحقیق کر کے جس کی وہ چیز ہو اسے دیدے) حضرت

صفوان بن معطل صحیح کے وقت اس مقام پر پھو نچے اور مجھ کو سوتا پایا۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب عورتوں کے شرعی پردے نہ تھے، تب انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا، اس لئے انہوں نے مجھ کو پہچان لیا۔ اور مجھ کو پہچان لینے پر فوراً استرجاع پڑھا۔ یعنی ”اَنَّا لِلَّهِ وَ اَنَا عَلَيْهِ رَاجِعٌ“۔ ان کے استرجاع پڑھنے سے میں بیدار ہوئی اور چہرے اور جسم کو میں نے چادر میں اور زیادہ چھپالیا، حضرت صفوان نے استرجاع کے علاوہ کچھ بھی نہ کہا اور نہ میں نے کچھ سننا۔ انہوں نے اونٹنی سے اتر کر اونٹنی کو بٹھایا اور میں جا کر سوار ہو گئی۔ اور حضرت صفوان اونٹنی کو کھینچ کر چل دیئے۔ ہم نے چل کر لشکر کو سخت دھوپ اور گرمی کے وقت ٹھہراؤ میں پالیا۔ پھر ہلاک ہوا جس کو میرے معاملے میں ہلاک ہونا تھا اور حس خُصْ لفظ سے بڑھ کر اس کی تشبیہ اور اتهام طرازی کی وہ عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔

حوالہ: (الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الوری)

از: امام علامہ جلال الدین سیوطی اردو ترجمہ، جلد ا- ص ۳۳۹ تا ۳۵۰)

بس اتنی سی بات تھی لیکن مدینہ طیبہ کے منافقین اور خصوصاً عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق نے اپنے خبث باطن اور دل میں چھپے ہوئے نفاق کا اظہار کرتے ہوئے ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کے خلاف تہمت اور افتراضی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ فتنے کا طوفان برپا ہو گیا۔ منافقین کے ساتھ کفار اور مشرکین بھی شامل ہو گئے، کچھ ضعیف الاعتقاد، سادہ لوح، بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آگئے۔

جہاں دیکھو وہاں صرف ایک ہی بات، مبالغہ، غلو اور جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ منافقین نے اس واقعہ کو اتنی اہمیت اور شہرت دی کہ خدا کی پناہ۔ ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے منافقین کے بہتان وا فک کا دندان شکن جواب دیا اور بارگاہ رسالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کا اظہار کیا۔

امیر المؤمنین خلفیۃ المسلمين سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے جسم اقدس پر جب کہ ملکھی تک نہیں پہنچی کیونکہ اس کے پاؤں نجاستوں سے آلودہ ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ آپ کے لئے کیسے گوارا کرے گا، اس بات کو جو اس سے کہیں زیادہ بدترین ہو اور اس سے آپ کی حفاظت نہ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا سایہ زمین پر نہیں گرتا، مبادا کہ وہ زمین ناپاک ہو۔ حق تعالیٰ جب کہ آپ کے سائے کی اتنی حفاظت فرماتا ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ کی ناشائستگی سے کیوں نہ حفاظت فرمائے گا۔ مولاۓ کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے اتنا گوارا نہیں فرمایا کہ آپ کے پائے اقدس کے نعلین مبارک میں نجاست کی آلوگی ہو اور وہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہے کہ آپ نعلین کو پائے اقدس سے اتار دیں۔ تو اگر یہ واقعہ نفس الامر میں وقوع پذیر ہوتا تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی خبر دیتا۔

(۱) **مدارج النبوة** از شیخ عبدالحق محدث دہلوی اردو، جلد ۱۔ ص ۲۸۰۔

(۲) **الخصائص الكبرى**، امام جلال الدین سیوطی۔ اردو ترجمہ جلد ۱۔ ص ۳۵۳۔

حضرور اقدس ﷺ نے اشارۃ الزام کی تردید فرمائی

منافقین و مشرکین کی جانب سے حضرت سیدنا مولانا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی پر مسلسل الزامات و اتهامات کا سلسلہ جاری رہا۔ بلکہ روز بروز اس میں اضافہ اور مبالغہ ہوتا رہا۔ ادھر صحابہ کرام و جانشیار ان بارگاہ رسالت منافقین کے اقوال و الزامات کی تردید فرماتے رہے۔ یہ معاملہ ایک ماہ سے زیادہ طوں پکڑ گیا۔ حضرور اقدس ﷺ نے بر بنائے مصلحت سکوت فرمایا اور منافقین کو کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی سے آپ یقیناً باخبر تھے لیکن مصلحت ایزدی کی بنا پر آپ نے اپنی رفیق حیات کی برأت کا صراحتہ ادا کیا۔ بِذَلِكَ إِشَارةً إِلَى أَنَّهُ فَرَمَيْتَ اپنے جانشیار صحابہ کے سامنے ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ **وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِيٍّ إِلَّا خَيْرًا** یعنی خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری اہلیہ کا دامن اس تہمت سے پاک ہے۔

یہاں تک کہ اس فتنہ کے دوران آپ نے مسجد نبوی میں دوران خطبہ فرمایا کہ ”کون ہے جو میری مدد کرے، اور اس شخص سے انتقام لے جس نے بلاشبہ مجھے اور میری اہل کو ایذا پہنچائی؟“ (اس سے مراد عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق تھا) پھر فرمایا کہ ”قسم ہے خدا کی! میں اپنی اہل سے پارسائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔“

قارئین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں اور اس پر غور و فکر فرمائیں کیونکہ اس واقعہ کے ضمن میں جس طرح زمانہ اقدس ﷺ کے منافقین نے فتنہ برپا کر رکھا تھا، اسی طرح دور حاضر کے منافقین فرقہ وہابیہ، نجدیہ، تبلیغیہ

وغیرہم نے بھی اس واقعہ کے ضمن میں بہت اودھم مچارکھا ہے اور اس واقعہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ علی الاعلان حضرت عائشہ کی برأت ظاہر کرتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا اثابت ہوتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ دور حاضر کے منافقین کا یہی شیوه ہے کہ وہ تو ہیں تنقیص رسالت کرنے کیلئے قرآن کے معنی اور احادیث کے مفہوم میں ترمیم و تردید پیدا کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں بقول:

ذکر روکے فضل کا ٹھنڈا نقش کا جویاں رہے
پھر کہے مرد ک کہ ہوں امت رسول اللہ کی

www.alahazratnetwork.org
(از: امام انہدرضا، محدث بریلوی)

ذکورہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اس واقعہ میں کیا کیا اسرار اور موزخنی تھے؟ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مصلحت کی بنا پر سکوت فرمایا؟ اور اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ انشاء اللہ کتاب کے اختتام میں عرض کروں گا۔ پہلے اس واقعہ کو تفصیل سے ذکر کرتا ہوں۔

جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لشکر کے قافلے سے بھڑکنیں اور قافلہ جب روانہ ہو گیا تب تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت عائشہ بھڑکنی ہیں۔ محمل اٹھانے والوں نے یہی سمجھ کر محمل (کجاوے) کو اونٹ پر رکھ دیا تھا کہ آپ اس کے اندر تشریف فرمائیں۔ لیکن جب یہ لشکر مدینہ شریف کے قریب صلصل نامی مقام پر ٹھہرا اور اونٹ بٹھائے گئے، مگر محمل سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا باہر تشریف نہ لا سکیں، تب پتہ چلا کہ آپ پیچھے رہ گئیں

ہیں، ان کے انتظار میں لشکر بمقام صلصل ٹھہر اڑا لشکر میں پانی اس انداز سے تھا کہ مدینہ شریف پہنچ جائے۔ لیکن ام المومنین کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے قافلہ کو مجبوراً ان کے انتظار میں رکنا پڑا اور لشکر میں جتنا پانی تھا، وہ صرف ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا تو وضو کیلئے پانی نہیں تھا پیونے کیلئے بھی پانی کی تیگنگی تھی۔ پانی کے بغیر وضوا و روضو کے بغیر نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن چونکہ یہ قافلہ محبوبہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واز واجہ و بارک وسلم کے انتظار میں ٹھہر نے کی وجہ سے پانی کی قلت کی وقت و مصیبت میں بمتلا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حرم محترمہ کے صدقے اور طفیل ان لشکر والوں پر مہربان ہو کر، ان پر اور ان کے طفیل قیامت تک کے مسلمانوں پر کرم فرمایا کہ حکم نازل فرمایا۔ جس کا اعتراض کرتے ہوئے حضرت سید بن حفیز رضی اللہ عنہ نے بارگاہ صدیقہ میں عرض کیا کہ مَا هَيْ بِأَوَّلِ بَرْكَاتِكُمْ يَا أَلِ أَبِي بَكْرٍ اے اولا دا بوبکر! یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تمہاری بہت سی برکتیں ہوں چکی ہیں۔ (مدادج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۲۔ ص ۲۷۵)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ واپس آئے، تو مشیت ایزدی سے ان ہی دنوں میں بیمار ہو گئی۔ میں گھر ہی میں تھی۔ ایک ماہ سے زیادہ میں بیمار رہی۔ باہر میرے خلاف فتنہ پردازوں نے جوالزمات اٹھا رکھے تھے، اس کا مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ ایک دن ام مسطح نام کی عورت نے الزام تراشیوں کی اتهام سازیوں کی ساری باتیں مجھ سے بیان کیں۔ جنہیں سن کر میں پہلے سے زیادہ بیمار ہو گئی۔ ایک روز حضور اقدس ﷺ میرے پاس

تشریف لائے اور سلام علیک کے بعد مجھ سے فرمایا ”تم کیسی ہو؟“ میں نے اپنی کیفیت بتانے کے بعد عرض کیا کہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں چند دنوں کیلئے اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی اور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے تمام باتیں دریافت کیں۔ میں تمام رات روتوی رہی اور صبح ہو جانے پر بھی میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، تمام شب جا گئی ہی رہی، پلک تک نہ بھکی۔ میں دن بھر مسلسل روتوی رہی، میرے آنسو روکے نہ رکتے تھے اور نیند نام کو بھی نہ تھی، مجھ کو اندر یہ شدت گریہ کی وجہ سے شاید میرا جگر پھٹ جائے گا۔

حوالہ: (الخصائص الکبیر، اردو، جلد ۱، ص ۲۵۱)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور اقدس ﷺ مجھ کو ملنے میرے گھر تشریف لائے۔ اور مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ! میرے حضور تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، لہذا اگر تم بڑی اور پاک ہو، تو عنقریب اللہ تمہاری پاکی بیان فرمائے گا اور تمہاری براءت کی خبر نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر میرے آنسو تھم گئے یہاں تک کہ میری آنکھوں میں ایک قطرہ تک بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ اس خوشی کی بنا پر تھا جو میں نے حضور اکرم ﷺ کے کلام مبارک سے بشارت پائی تھی۔

حوالہ: (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص ۲۸۱

(۲) خصائص کبیری، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص ۲۵۲)

حضرت عائشہ کی براہت میں قرآنی آیات کا نزول

ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں امید رکھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری براہت فرمادے گا۔ اور میری پاکی اور پاک دامنی کی خبر دے گا۔ لیکن مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ اللہ میرے اس معاملہ میں وحی نازل فرمائے گا۔ کیونکہ میں اپنے آپ کو اور اپنے معاملے کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ البتہ مجھ کو صرف اس بات کی توقع تھی کہ رسول اللہ ﷺ شاید خواب دیکھیں گے اور اس ذریعہ سے مجھ بے چاری کی عفت اور عصرت پر گواہی مل جائے گی۔ اللہ کا کرم دیکھئے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ یا کیا یک حضور پر نزول وحی کے آثار نمودار ہوئے اور جو شدت ایسے موقع پر ہوتی تھی وہ شروع ہوئی۔ حتیٰ کہ آپ کی پیشانی مبارک پر موتیوں کے مانند پسینہ چمکنے لگا۔ آپ پر خوب ٹھنڈی کے موسم میں بھی نزول وحی کی شدت سے پسینہ وغیرہ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اور یہ اس گرانی اور بوجھ کی وجہ سے ہوتا تھا، جو کلام مجید آپ پر اترتتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور اقدس ﷺ نزول وحی کی کیفیت سے فارغ ہوئے، تو آپ کا یہ حال تھا کہ آپ تسم فرمار ہے تھے۔ سب سے پہلی بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ تھی کہ ”اے عائشہ صدیقہ! حق تعالیٰ نے تمہیں بُری قرار دے کر تمہیں پاک گردانا ہے۔ اس تہمت سے تمہاری پاکی بیان کی ہے اور تمہاری شان میں قرآن بھیجا ہے۔“

حوالہ : (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۲۔ ص ۲۸۳

(۲) خصائص کبُریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۱۔ ص ۲۵۲

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت **إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِلْفَكِ عُمَصَبَةٌ مِنْكُمْ** (پارہ ۱۸، سورہ نور، آیت ۱۱) ترجمہ: ”بے شک وہ کہ یہ بہت بڑا بہتان لائے ہیں، تمہیں میں کی ایک جماعت“ (کنز الایمان) سے لے کر دس ۰۱ آیتوں تک وحی ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں دس آیات مذکورہ اور دیگر آٹھ ۸ آیات ملکر کل ۱۸ اٹھارہ آیات نازل فرمائیں۔

سورہ نور آیت ۲۔ پارہ اٹھارہ میں صاف حکم نازل ہوا کہ:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِيْنَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبِلُوا أَهْمَ شَهَادَةً أَبَدًا

www.alahadith.com

ترجمہ: ”اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں، پھر چار گواہ معاشرہ کے نہ لائیں تو انہیں اسی ۸۰ کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔“

(کنز الایمان)

ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت اور افک کے سلسلہ میں قرآن مجید کا انداز بیان بڑا جامع اور پر زور ہے۔ اس میں اعجاز وایجاز اور احکامات و تنبیہات اس اسلوب سے بیان کئے گئے ہیں کہ معصیت کے کسی دوسرے وقوع اور موقع پر اس انداز سے بیان نہیں کئے گئے۔ تہمت طرازی اور سخن سازی کامنا فقین کی طرف سے جو مظاہرہ ہوا، جس سے اہل بیت رسول اور خود رسالت مآب ﷺ کو جوانہ تھائی صدمہ، دکھ،

اور تکلیف پھوپھی تھی، اس کی وجہ سے انداز بیان میں شدت ہوئی ہے۔

الخاص الصالح البُرِّ فی مَجْزَاتِ خَیْرِ الْوَرَیٰ میں امام اجل حضرت علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی قدس سرہ نے زخیری کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ”اصنام پرستی اور شرک کے بارے میں جو تنبیہات ہیں، وہ بھی مقابلۃ اس سے کچھ کم ہی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک پاکباز زوجہ رسول ﷺ کی طہارت و برأت کی حامل ہیں۔“

وحي کے نزول کے بعد حضور اقدس ﷺ نے سورہ نور کی دس آیتوں کی تلاوت فرمائی اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں سے نکل کر خوش و خرم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کو جمع فرمایا کہ اس کے بعد نازل شہادت آیتوں کی صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اور تہمت لگانے والوں کو طلب فرمایا۔ تہمت لگانے والے جب بارگاہ رسالت میں حاضر کئے گئے، تو سرکار نے ان پر ”حد قذف“ جاری فرمایا اور ہر ایک کو اسی ۸۰ کوڑے لگوائے۔

(حوالہ: مدارج النبوة۔ اردو، جلد ۲۔ ص ۲۸۳)

یہاں تک کے مطالعہ سے واقعہ کی ابتداء سے انتہا تک کی واقفیت حاصل ہو چکی ہوگی۔

اب دور حاضر کے منافقین کے اعتراضات میں سے اہم اعتراض جو اس واقعہ کے ضمن میں حضور اقدس ﷺ کے علم غیب پر ہیں اس کا جواب دیں۔

منافقین زمانہ کے اعتراضات

دور حاضر کے منافقین یعنی وہابی، نجدی، دیوبندی، اور تبلیغی فرقہ باطلہ کے مبلغین و مقررین اپنے جہالت سے لبریز بیان اور تقریر جو دراصل تقریر نہیں بلکہ تفریق بین المسلمين ہوتی ہے۔ بڑے تپ و تپاک سے اودھم مچاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت و پاک دامنی کے سلسلہ میں حضور نے ایک ماہ سے بھی زیادہ عرصہ تک سکوت کیوں فرمایا؟ آپ نے فور ان کی برات کا اعلان کیوں نہ کر دیا؟ بلکہ وحی کے منتظر ہے۔ اور جب وحی آئی تب آپ نے برات کا اعلان فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو آپ فوراً برات کا اعلان کر دیتے۔ (معاذ اللہ)

بس یہی ہے ان کے دعویٰ کی دلیل و برهان۔ مشیت ایزدی اور حکمت الہیہ کے رموز کو سمجھنے سے یک لخت قاصر و عاجز ہونے کی وجہ سے ایسی بے ڈھنگی بات کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اس واقعہ کے پردے میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں اور ان تمام حکمتوں سے اللہ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کو آگاہ فرمادیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے سکوت فرمایا تھا۔ کچھ وجوہات ذیل میں عرض ہیں۔

حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی تھی، منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہوتا۔

زبان سے توفیقیں کھا کر حضور اقدس ﷺ کا رسول ہونے کا اقرار کرتے تھے لیکن پیغمبر کے پیچھے حضور کی شان میں نازیبا کلمات کہہ کر آپ کی گستاخی کرتے تھے اور آپ کو جھلاتے تھے۔ منافقین کی ان دو غلی باتوں کا اللہ نے پرده فاش فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ایک مکمل سورۃ بنام ”منافقون“ نازل فرمائی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ لَكَذِبُونَ“
(پارہ ۲۸۔ سورہ منافقون۔ آیت ۱)

ترجمہ: ”جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بیٹھ کیقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں“ (کنز الایمان)

ان منافقین کی ایک خصلت کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح ہے کہ:

”إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ“ (پارہ ۱۔ سورہ البقرۃ، آیت ۱۳)

ترجمہ: ”اور جب ایمان والوں سے ملیں، تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی نہی کرتے ہیں۔“ (کنز الایمان شریف)

رسول کے ماننے میں اور ایمان کے اقرار میں منافقین دو غلی بولی بولتے ہیں اور ان کے اقرار و ایمان کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ منافق کو صرف جھوٹا نہیں بلکہ ”ضرور جھوٹا“ کہا گیا ہے۔ یعنی ان کا جھوٹ اتنا عام ہے کہ ان سے صدق کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی۔ منافقوں کی بے حیائی اور بے شرمی کا یہ حال تھا کہ ابھی انکار اور ابھی رجوع۔ بلکہ دن کے اجائے کورات کی اندھیری کہہ دینے میں بھی ان کو کوئی جھگڑ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رسول اکرم ﷺ کو جھٹلاتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کے بین معجزات کو معاذ اللہ جادو اور سحر کہتے تھے۔ لہذا ان جھوٹوں کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برآمدت کا اعلان کرنے پر سودا تھا۔ اگر حضور اقدس ﷺ اپنی طرف سے حضرت عائشہ کی برأت کا اعلان فرماتے تو منافقین ایک الزام یہ گڑھتے کہ دیکھو! اپنی بیوی کا دفاع کر رہے ہیں، زوجیت کی بناء پر طرفداری کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے عیب پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

حضور اقدس ﷺ کو یقین کے درجہ میں اس معاملہ کا علم تھا

حالانکہ حضور اقدس ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں یقیناً باخبر تھے۔ اسی لئے تو اپنے جانشیر صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے سامنے حضرت عائشہ کے معاملے میں فرمایا وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِ إِلَّا خَيْرًا یعنی: ”خدا کی قسم! میں اپنی اہل سے

پارسائی کے سوا کچھ نہیں جانتا،” اس جملے کو غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ حضور نے اس جملے کو ”وَاللّٰهُ“ یعنی ”خدا کی قسم“ سے موکد فرمایا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو حضرت عائشہ کی عصمت کا صرف گمان نہیں تھا بلکہ یقین کامل تھا۔ اسی لئے تو اللہ کی قسم سے جملے کی ابتداء فرمائکر اپنے یقین کامل کا اظہار فرمائے ہیں۔ جب نبی اور رسول معصوم ہیں۔ ان سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے اور جھوٹ بولنا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت کا اعلان ہے۔ تو نبی اور رسول کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور پھر جھوٹ پر اللہ کی قسم کھانا، اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا لازم ہے کہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی بھی خدا کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ تو حبِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے خدا کی قسم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات فرمائے ہیں، تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اس واقعہ کی حقیقت کا یقین کے درجہ میں علم تھا، بلکہ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ تہمت لگانے والا اور فتنہ اٹھانے والا کون ہے؟ اسی لئے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ: ”کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور اس شخص سے انتقام لے جس نے بلاشبہ مجھے اور میری اہل کو ایذا پہنچائی؟“ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان سے جوش الفت کے جذبے کے تحت طیش میں آکر منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اس سے انتقام لینے کیلئے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے لیکن حضور نے انہیں باز رکھا۔ اور مصلحتاً خاموش کر دیا کیونکہ اگر حضور ان حضرات کو اجازت

انتقام عطا فرماتے اور وہ تہمت لگانے والے منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق کو قتل کر دیتے، تو دیگر منافقین یہ واپسیا مچاتے کہ حضور نے اپنی زوجہ کی طرفداری میں حقیقت واقعہ کو چھپانے کیلئے عبد اللہ بن ابی کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا۔ اپنی زوجہ کی پاک دامنی کا کوئی ثبوت نہ تھا، لہذا قتل و غارت گری کی راہ اپنائی۔ اسی لئے حضور اقدس ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو خاموش کر دیا۔ تاکہ فتنہ کی آگ اور زیادہ نہ بھڑ کے دور حاضر کے منافقین صرف اسی بات کی رث لگاتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی طرف سے حضرت عائشہ کی براءت کا اعلان نہ کرتے ہوئے سکوت کیوں اختیار کیا۔ اس کا جواب ضمناً تو اوپر بیان ہو چکا کہ اگر آپ ﷺ براءت کا اعلان فرماتے تو منافقین ماننے والے نہ تھے بلکہ دیگر الزامات تراشتے۔ اس لئے حضور نے سکوت فرمایا۔ اور ایک اہم مصلحت یہ تھی کہ حضور براءت کا اعلان کریں وہ اتنا موثر نہ ہوگا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان براءت کا اثر ہوگا۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیں کہ ایک بادشاہ کی کوئی چیز گم ہو گئی، کچھ مخالف لوگوں نے چوری کا الزام بادشاہ کے وزیر اعلیٰ کے بیٹے پر لگایا۔ حالانکہ کہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا بے قصور تھا۔ وزیر اعلیٰ کو اپنے بیٹے کے بے قصور ہونے کا یقین کے درجہ میں علم ہے۔ لیکن وقت کا تقاضا اور مصلحت حالات یہ ہے کہ وزیر خاموش ہی رہے۔ کیونکہ اگر وزیر اٹھ کر اپنے بیٹے کے بے قصور ہونے کا اعلان کرے گا تو الزام لگانے والے مخالفین کا گروہ بھی کہے گا کہ اپنے بیٹے کی محبت اور طرفداری میں وزیر اعلیٰ اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا وزیر اعلیٰ

سکوت اختیار کرے یہی بہتر و مناسب ہے، چاہے تہمت کی آندھی کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ صبر کرے اور خاموش رہ کر اس وقت کا انتظار کرے کہ حق بات واضح ہو کر سامنے آجائے۔ اچانک ایک دن بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے فرزند ارجمند پر چوری کا جوازام لگایا گیا ہے اس میں وہ بری اور بے قصور ہے۔ وزیرزادہ دیانتدار اور نیک بخت ہے۔ ایسے نیک بخت پر چوری کا الزام لگانا، ظلم شدید اور گناہ عظیم ہے۔ ہم وزیرزادہ کو اس چوری کی تہمت سے باعزت بری کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم نافذ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے نیک بخت اور دیانتدار پر غلط الزام لگاتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائیں۔ اسکے بعد الزام لگانے والوں کو بادشاہ کوڑے لگوائے اور کوڑے لگانے کا کام اپنے وزیر کے ہاتھ سے انجام دلوائے۔

اب قارئین کرام، سوچیں! وزیرزادہ کی عزت کس میں بڑھی؟ اگر وزیر اپنے بیٹے کی برأت کا اعلان کرتا ہے تو اس میں وہ عزت و شان حاصل نہ ہوتی جو عزت اور مرتبہ بادشاہ کے اعلان سے حاصل ہوا۔ ٹھیک اسی مثال کو حضرت سدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ میں ذہن نشیں کر کے سوچیں کہ حضور اقدس ﷺ کی طرف سے برأت و عصمت کے اعلان میں منافقین کو طرفداری اور پاسداری کے الزام کی گنجائش تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت کا اعلان قرآن مجید میں فرمادیا، تواب کسی کو سکنے کی، ہسکنے کی، بد کنے کی، رینگنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔

اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت کا اعلان فرماتے تو وہ حدیث کہلاتی اور یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں دیگر واقعات کی طرح شمار کیا جاتا۔ حدیث کے متن (عبارت) کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی لیکن اللہ نے حضرت عائشہ کی برأت کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عظمت قیامت تک نماز میں تلاوت قرآن مجید کے ذریعہ ظاہر ہوتی رہے۔ عوام مسلمین میں دینی تعلیم و معلومات حاصل کرنے کی رغبت اور شوق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم لوگ اپنی اولاد کو دے پاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حدیث و فقہ کے علم کی طرف بہت کم افراد مائل ہیں۔ اگر برآئیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بذریعہ حدیث ہوتی تو اتنی شہرت و عزت نہ ملتی جتنی کہ قرآن مجید سے برأت ہونے پر حاصل ہوئی۔

چھوٹا سا دیہات ہوگا، چاہے اس میں مسلمان کے دور چارہی مکان ہوں لیکن وہاں کسی نہ کسی گھر میں قرآن مجید ضرور ہوگا۔ لیکن وہاں کتب احادیث کا ہونا ناممکن ہے۔ بلکہ اکثر شہروں میں جہاں دارالعلوم نہیں ہوتے وہاں بخاری شریف، مسلم شریف و دیگر کتب احادیث کا ہونا ناممکن ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں کلام مجید کا نسخہ موجود نہ ہو۔ بر عکس اس کے کتب احادیث بہت کم دستیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ برأت حضرت عائشہ کا جو اعلان فرمایا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی شان و شوکت کا ذکر کا قیامت تک بجتار ہے۔

اگر بجائے قرآن مجید احادیث سے حضرت عائشہ کی برأت و عصمت کا اعلان ہوتا تو منکرین عظمت کو تنقیص کیلئے ایک راہ یہ ملتی کہ وہ اپنی ذہنی اختراع سے یہ کہہ دیتے کہ ”یہ حدیث ضعیف ہے“، جیسا کہ دور حاضر کے منافقین وہابی، نجدی، دیوبندی، تبلیغی لوگ عظمت و تعظیم مصطفیٰ ﷺ کے جواز و ثبوت کی احادیث سے عوام کو بے التفات و بے اعتماد کرنے کیلئے بلا کسی ثبوت علم اسماء الرجال کہہ دیتے ہیں کہ ”یہ حدیث ضعیف ہے“، لیکن قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو ضعیف کہنے کی کسی میں جرأت نہیں۔ اور اسی حکمت کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔

عورت کے حقوق کی پاسداری

اسلام ایسا کامل مذہب ہے کہ جس نے نوع انسان کو حیات جاودائی بخشی ہے۔ حقوق انس کی صحیح پہچان اور نشاندہی اسلام ہی نے عالم دنیا کو بتائی ہے۔ اسلام نے دنیا کو معاشرت کا صحیح طریقہ و سلیقہ دکھایا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی حمایت کرنا اسلام کا طریق عمل ہے۔ خصوصاً عورتوں پر اسلام کا عظیم احسان ہے۔ ابتدائے اسلام کے دور میں عورت کو اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو گویا اس کو سانپ سونگھ گیا ہو ایسا اس کا چہرہ ہو جاتا تھا اور سماج کے مطابق لڑکی کو زندہ در گور کر دیتے تھے۔ میراث میں عورت کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ عورت کو صرف دل بہلانے کا کھلونا سمجھ کر

اس سے دل لگی کی جاتی تھی۔ اور جب اس سے جی بھر جاتا، تو اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکتے تھے۔ عورت پر زنا اور دیگر عیوب کے الزام لگا کر اس کو رسوا اور ذلیل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کسی بھی باعصمت و پاک دامن خاتون کو ایک آن میں فاحشہ اور بد کردار کے القاب سے نواز نے میں کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہیں کی جاتی تھی، جس کے جی میں جو آیا، وہ منہ سے کہہ دیتا تھا لیکن محبوبہ محبوب رب العالمین سید تنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کاروئے زمین کی تمام عورتوں پر احسان ہے کہ آپ کے سبب سے قرآن مجید میں عورتوں کی عصمت کی پاسداری اور پاسبانی کی گئی۔ ان کی پاک دامنی کی عظمت کی حفاظت کی گئی اور بات بات میں عورتوں کی پاک دامنی پر تہمت کا کچھ اچھا لئے والوں کو متذمّر کرتے ہوئے قرآن مجید پارہ ۱۸ سورہ نور، آیت نمبر ۳ میں صاف اور صریح حکم فرمایا گیا کہ：“ اور جو لوگ پارسا عورتوں کو عیوب لگائیں، پھر چار گواہ معاشرہ کے نہ لائیں، تو انہیں اسی ۸۰ کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔”

(کنز الایمان)

اس آیت کے نزول سے عورتوں کی پارسا می پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں فعل قبیح کی تہمت لگانے والوں کے منہ پر علی گڑھی تالے لگ گئے۔ صرف منہ پر تالا ہی نہ لگایا گیا بلکہ تالا کھولنے والوں کو اسی ۸۰ کوڑے لگانے کی سزا متعین کی گئی۔ جس کو شرعی اصطلاح میں ”حد قذف“ کہا جاتا ہے۔ صرف قذف پر ہی اکتفا نہ کیا گیا بلکہ تہمت لگانے والے کو دائمی طور پر ”مردود الشہادة“ قرار دیا گیا۔ یعنی ہمیشہ کیلئے اس کی ہر گواہی متروک و غیر معتبر کر دی

گئی۔ مذکورہ آیات کے علاوہ کئی آیات جھوٹی تہمت لگانے والوں کی ندمت میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں۔ جن کا تفصیلی ذکر یہاں نہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کرو دیتا ہوں کہ ایسے تہمت بازوں کو سورہ نور میں فاسق، جھوٹا، اس پر اللہ کی لعنت وغیرہ وعیدوں سے ڈرایا اور خبردار کیا گیا ہے۔ اور مردوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ عورت بھی خدا کی ایک معزز مخلوق ہے۔ اس کو حقیر اور ذلیل مت جانو، اس کو بچ سمجھ کر اس کے کردار پر کچھ اچھا ناترک کر دو، اس کی عزت و آبرو کی نگہبانی کرو، اس کے دامن عصمت کو تہمت والزام سے داغدار کرنے سے باز رہو۔ ورنہ اسی ۸۰ کوڑے، مردود الشہادۃ، فاسق، جھوٹے، اور اللہ کی لعنت کے حقدار جیسی سزا میں بھگلتے کیلئے تیار رہو۔ یہی اسلامی تہذیب بخوبی ہے۔ اسکی وجہ کے دلائل۔ یہ میں رہوا اور یہ حکم قیامت تک جاری رہے گا۔

اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فوراً فرمادیتے اور وہی کا انتظار نہ فرماتے تو:-

- کیا سورہ نور کی دولت سے ہم سرفراز ہوتے؟
- کیا اس میں معاشرے کے نظام کی درستگی کے جواحکامات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتے؟
- عورتوں کی عزت و آبرو کی پاسداری اور پاسبانی کی تعلیم ہم کو حاصل ہوتی؟
- عورتوں کی عصمت اور پاک دامنی کی تاقیامت جو حفاظت کی گئی ہے وہ کیا

حاصل ہوتی؟

- تہمت وال زام تراشی جیسے قبیح و مذموم طور و اطوار کے ترک کرنے کا حوصلہ ملتا؟
- کیا یہ اخلاقی محاسن دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے؟

ان تمام احکامات و وجوہات کی بنا پر عالم ما کان و ما یکون، علم غیب جاننے والے، ہر بات سے باخبر، پیارے رسول اللہ ﷺ نے توقف فرمایا کہ سکوت فرمایا۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر و عاجز، کو رچشم و کور باطن دور حاضر کے منافقین نے سکوت مصطفیٰ ﷺ سے غلط استدلال حاصل کر کے یہ واپسیا مچا رکھا ہے کہ معاذ اللہ آپ ﷺ کو علم غیب نہیں تھا۔

برأت عائشہ میں تاخیر کی حکمت

دور حاضر کے منافقین ایک شور یہ بھی مچاتے ہیں کہ برأت حضرت عائشہ صدیقہ کے معاملے میں حضور نے عجلت کیوں نہ فرمائی۔ اور اتنی تاخیر کیوں کی؟ اب اسی سوال کو ہم دور حاضر کے منافقین کی جانب لوٹاتے ہیں کہ برأت حضرت عائشہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے نزول میں تاخیر کیوں فرمائی؟ ہے کوئی آپ کے پاس اس کا جواب؟ لیکن محمدہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے پاس اس کا شافعی و وافی و کافی جواب ہے۔ نزول آیات قرآن کی تاخیر میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی معاملہ پیش آئے اور فوراً اس کا تدارک کر دیا جائے تو اس معاملہ کی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ فی الفور رفع دفع ہو جانے والا معاملہ صرف کچھ دنوں تک

عوام الناس میں زیر بحث اور موضوعِ سخن رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اثرات تادیر قائم نہیں رہتے اور نہ ہی اس واقعہ کی سُنگینی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ فی الفور حل شدہ معاملے میں لوگوں کے نظریات و تخیلات بھی کامل طور سے رونما نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کے تفکرات اندر ہی اندر دب کر رہ جاتے ہیں۔ ان کو اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ایسی صورت میں لوگوں کے ذاتی روئے کا پتہ نہیں لگتا کہ جناب عالیٰ کس جانب ہیں؟ موافقین میں سے ہیں یا مخالفین کی گروہ میں شامل ہیں تاکہ تمیز ہو سکے کہ یہاں پناہ یا پر ایما؟

حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کا معاملہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی عصمت کا معاملہ تھا۔ اور در پردہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کی عزت و آبرو کا معاملہ تھا۔ تہمت کا تعلق کردار سے تھا، پاک دامنی سے تھا، ایک عورت کے لئے اپنی عصمت سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ ایک عورت اپنی عصمت کے تحفظ کیلئے دنیا کا سارا عیش و آرام قربان کرنے کیلئے ہمہ وقت مستعد ہوتی ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کا معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رفع دفع فرمادیتے تو اس سے معاملہ کی اہمیت اور سُنگینی کا احساس نہ ہوتا۔ آئے دن ایسے اتهامات کا اعادہ اور سلسلہ جاری رہتا۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی نہیں بلکہ اور بھی پاک دامن خواتین کے دامن عصمت جھوٹی تہمتوں سے داغدار ہوتے رہتے۔ اور اس کا دامنی طور پر کوئی تدارک نہ ہوتا۔

حضور اقدس ﷺ نے معاشرے سے اس قسم کے ردیل افعال کو نیست و نابود فرمانے میں جو کردار ادا فرمایا ہے، وہ پوری دنیا کے لئے ضرب المثل ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ الزام تراشی کی عادت قبیحہ کو اس طرح ختم کیا جائے اور ایسے اقدام کئے جائیں کہ کوئی بھی شخص کسی پاک دامن عورت کی عصمت پر تہمت لگانے سے پہلے اس کے انجام سے باخبر اور خوفزدہ ہو کر اس کے ارتکاب سے تحریر کانے۔

آج تو میری زوجہ محترمہ کی عصمت کو نشانہ بنایا گیا ہے، کل کسی اور پاک دامن خاتون کی ردائے عصمت کو خبر تہمت سے پاش پاش کیا جائے گا۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سبب بنا کر عصمت النسا کے تحفظ کیا گی، اور مستقل اقدام اٹھائے جائیں۔ اسی لئے اس معاملہ کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی اور اہمیت دینے کیلئے ہی اس معاملہ کو اتنا طول دیا گیا۔ طول دینے سے اہم امر یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ سماج کے سب لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں اور سب لوگوں کی آراء و نظریات معلوم ہو جاتے ہیں تاکہ کل اٹھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اس معاملہ کی اطلاع ہی نہ ہوئی، ورنہ میں اپنی رائے اس طرح پیش کرتا۔ توجہ سماج کے سب لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس معاملے کا حل اور فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کسی کو غیر مطمئن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان سب امور کے حصول کے لئے معاملے کو طول دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص بعد میں اپنی لاعلمی کا اظہار و بہانہ نہ کر سکے۔ لہذا اسی غرض و حکمت کی بناء پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کے

معاملے کو ایک ماہ سے زیادہ مدت تک طول دیا گیا۔

کسی معاملے کو طول دینے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پر ایسا اپنی وفاداری اور جانشیری کا دم بھرنے والے کا امتحان ہوتا ہے کہ عین وقت پر کون ثابت قدم رہتا ہے اور کس کے پائے استقلال میں تزلزل آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص؟ بہت سے لوگ کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں۔ ان کے عزم و ارادے، فیصلے اور رائے میں اپنا کوئی نظریہ کا گر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ماحول کے پیش نظر جہاں جھکاؤں ہوتا ہے اسی طرف جھکتے ہیں۔ نقص الرانی اور ناقص العقل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دوسروں کے فعل و ارتکاب کا اتباع کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر کچھ فیصلہ کرنے سے وہ لوگ عاجزو قاصر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں خود اعتمادی اور خود ارادیت Self Determination کا فقدان ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ارادوں اور فیصلوں کے محتاج اور مر ہون منت ہوتے ہیں۔ اور یہ خصلت اور عادت مذموم و ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ اس میں خوف و اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی حق و باطل کا فیصلہ کئے بغیر کسی کی دیکھا دیکھی میں غلط راہ اختیار کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا عام حالت میں پتہ نہیں لگتا بلکہ جب کبھی کوئی سنگین معاملہ ہوتا ہے، تب ان کی ذہنی بے مائیگی کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے لوگ ماحول سے متاثر ہو کر ہمیشہ چلتی گاڑی میں چڑھ جانے کی طامع ذہنیت رکھتے ہیں۔ بلکہ اپنے نفع اور لاچ کے حصول کی خو

کی بناء پر اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ ان کو آنکھوں کی شرم بھی نہیں ہوتی، دوستی اور وفاداری کے تمام عہدو پیمان وہ لوگ فراموش کر جاتے ہیں۔ بتقاصر دوستی و محبت مصیبت کے وقت مدد کرنا وہ بھول جاتے ہیں، مدد کرنا تو درکنار، الٹے وہ مخالفت کرنے والوں کے زمرے میں اپنی جائے نشست اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے مدعی دوستی اور سچے وفادروں کا امتیاز مصیبت کے معاملے کے وقت ہی صحیح طور پر ہوتا ہے۔ عام حالات میں زبانی اقرار محبت و فاداری تو سب کرتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے تب عاشق صادق سایہ کی طرح ساتھ رہتا ہے اور وہ کے بازاڑ کر سامنے والے کنارے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہری روئیے سے پتہ نہیں چلتا کہ جنابہ تعالیٰ کس فریق سے تعلق رکھتے ہیں؟ لیکن جب موقع آتا ہے تو ایسے لوگ اپنی محبت وعداوت کا اطہار کرنے میں ذرہ برابر کی بھی کاہلی نہیں کرتے۔

تب پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو ہم کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کے معاملے کو اتنی لمبی مدت تک طول دینے کے پس پرده حکمت ایزدی بھی تھی کہ لوگوں کا امتحان اور آزمائش ہو جائے اور اس امتحان کے ذریعہ لوگوں کا امتیاز بھی ہو جائے۔ قارئین کو حیرت ہوگی کہ منافقین کی باتوں کے جال میں سادہ لوح اور بھولے بھالے مسلمان بھی پھنس گئے تھے اور ان کا شمار بھی اہل افک یعنی تہمت لگانے والوں میں ہوتا ہے۔ بڑا ہی سنگین معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان و آزمائش کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ایسے موقع پر امتحان لیتا ہے۔ جب پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا

تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امتحان لیا تھا۔ جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ۔ (پارہ ۲۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۳)

ترجمہ: اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے، ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اٹھ پاؤں پھر جاتا ہے۔
(کنز الایمان)

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے اور جو امتحان میں ناکام ہوتے ہیں ان پر سزا و عتما پر فرماتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کے معاملے میں اچھوں اچھوں کا امتحان ہو گیا۔ جو سادہ لوح اور بھولے بھالے مسلمان منافقین کے دام فریب میں آ کر اہل افک میں شامل ہو گئے تھے، ان کو حد قذف کی سزا یعنی کہ اسی ۸۰ کوڑے لگوائے گئے۔

اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید میں آیت تیمّن نازل ہوئی جو قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے راحت اور آسائش ہے۔

ایک کہاوت ہے کہ ”خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے“، زمانہ اقدس حبیب اللہ عزیز کے منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹی تہمت لگا کر شہرت اور غلط پروپیگنڈوں کا بازار تو گرم کر دیا لیکن ان کی عقولوں پر بے وقوفی کے پردے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ

سوچا کہ جس شخص کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام جوڑ رہے تھے، وہ شخص یعنی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سے ایسی حرکت کے صدور کا امکان ہی نہ تھا۔ کیونکہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نامرد تھے۔ اور ان کا آلهہ تناسل ناکارہ تھا۔ خود حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے اپنی نامردگی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں نے کسی عورت کا پرده نہیں اٹھایا۔ مطلب یہ کہ میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ جماع نہیں کیا۔

(حوالہ: [www.darulilm.com](#) شیخ عباد الحنفی موسیٰ دہلوی اردو ترجمہ، جلد ۲ ص ۲۸۲)

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زمانہ اقدس کے منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اس میں کتنا دم تھا، زمانہ اقدس کے منافقین کی اتباع میں دور حاضر کے منافقین بھی ایسی بے وقوفی سے لبریز باقی میں کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے برأت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی طرف سے نہ ظاہر کی بلکہ وحی آنے کے بعد اعلان برأت کیا۔ ان عقل کے اعمی کو کیا نہیں معلوم کہ حضور اقدس جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے پر، وحی والہام ہونے پر، ہی آپ کلام فرماتے تھے۔ کبھی آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کلام بصورت قرآن ہوتا تھا اور کبھی بصورت حدیث۔

قرآن مجید میں ارشاد پاری تعالیٰ ہے کہ

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

(پارہ ۲۷، سورہ النجم، آیت ۳)

ترجمہ "اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں مگر جو وہی ان کو کی جاتی ہے

(کنز الایمان)

"

دور حاضر کے منافقین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کے واقعہ کو آڑ بنا کر حضور اکرم ﷺ کے علم غیب کی نفی کی راہ نکالنے کی مضحکہ خیز باتیں کر کے خود مضحکہ خیز بنتے ہیں۔ عداوت و بعض نبی میں اپنے ذہنی اختراق کی بے تکلی اور بے جا باتیں اپنی ناپاک زبان سے کہہ کر اپنی بے راہ رو دی کا شہزادہ ذہنیت ہیں۔ حالانکہ حضور اقدس ﷺ کے علم غیب کے اثبات میں آیات قرآن، دفاتر احادیث اور اقوال ائمہ دین اتنی کثیر و افر تعداد میں شاہد و عادل ہیں کہ کئی ضخیم کتب مرتب ہو سکتی ہیں۔

امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا محقق بریلوی اس پورے واقعے کی عکاسی اپنے اس شعر میں یوں کرتے ہیں۔

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ

ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام

یعنی امام اہل سنت ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایسی پاک دامن اور عصمت و عفت مآب تھیں کہ ان محسن کی وجہ سے ان کی صورت

نورانی تھی ”ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام“ اور یہ حقیقت ہے کہ پاک دامن اور نیک کردار کے چہرے پر ہی نور ہوتا ہے۔ بد عقیدہ اور بعمل کے چہرے پر نور نہیں ہوتا بلکہ سیاہی اور کالک ہوتی ہے۔ ان کا چہرہ دیکھنے میں بھی مکروہ محسوس ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے جبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہر سنی مسلمان کو انبیائے کرام علی نبینا و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سچی عظمت و محبت عطا فرمائے اور انبیائے کرام کی مقدس ازواج کی تعظیم و تکریم کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور ان کی جناب میں نازیبا و ناشائستہ الفاظ بولنے سے محفوظ و مامون رکھے۔

آمین۔ یا رب العالمین۔

و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا
محمد و آلہ و آزواجہ و أصحابہ و اہل بیته اجمعین۔ آمین۔

